

فضائل دُعائے اِسْمِ اَعْظَمِ مَع

اسمائے جبروت

اس دُعا کو جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کلمات میں اسمِ اعظم ہے اُن کلمات کو بھی یکجا کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ایک مخصوص انداز کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ کیونکہ دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اس لئے جو کوئی اللہ تعالیٰ کو درج ذیل اسماءِ اِحْسَنی کے ذریعے سے روزانہ ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس دُعا کے قاری کو ستر قسم کے مصائب الام سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور پڑھنے والے کی پردہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ قاری کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے تاکہ جلد مراد کو پہنچے۔ قاری کی سہولت کے لئے اردو ترجمہ بھی پیش خدمت کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی سخت مشکل میں پھنس جائے تو اس چاہئے کہ اس دعا کو صبح فجر کی نماز سے پہلے تین مرتبہ پڑھے اور پھر سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت روائی کرنے پر قادر مطلق ہے۔ نیز اس دعا سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا چاہئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

دُعائے اسمِ اعظم مع اسمائے

جبروت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط

اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٤﴾

تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیری ذات پاک ہے۔ بیشک میں ہی بے جا کرنے والوں میں سے ہوں۔ (الانبیاء: ۸۴)

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاللَّيْلُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

اور تمہارا معبود وہی معبود واحد ہے۔ نہیں ہے کوئی دوسرا معبود مگر وہی رحمن کرنے والا ہے۔ (البقرہ: ۱۶۳)

الْم ۱) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۲)

الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ قائم ہے، (آل عمران: ۱-۲)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اے اللہ میں تجھ سے اس لئے التجا کرتا ہوں بے شک تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں

أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ

تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ تو کسی سے جنا گیا

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور تیرا کوئی ہمسر نہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے اللہ میں تجھ سے اس لئے التجا کرتا ہوں بے شک تو ہی حمد کے لائق ہے۔ تیرے سوا کوئی

الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ

معبود نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، از سر نو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے صاحب

وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ط

جلال اور اکرام اے زندہ اے قائم ذات۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا تمام ملک ہے اور اسی کی

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا

تمام تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے کی

حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ط

طاقت اور نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط

اے صاحب جلال اور بزرگی والے۔

يَا نُورُ تَنَوَّرْتَ بِالنُّورِ وَ النُّورُ فِي نُورِ نُورِكَ يَا نُورُ ط

اے روشن کرنے والے تو اپنے نور کے ساتھ روشن ہوا اور سب نور میں تیرا نور ہے اے نور۔

يَا عَزِيزُ تَعَزَّزْتَ بِالْعِزَّةِ وَالْعِزَّةُ فِي عِزَّةِ عِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ ط

اے غالب! تو معزز ہوا ساتھ اپنی عزت کے اور سب عزت میں تیری عزت کے غلبہ میں ہے اے غالب۔

يَا جَلِيلُ تَجَلَّلْتَ بِالْجَلَالِ وَالْجَلَالُ فِي جَلَالِكَ ط

يَا جَلِيلُ ط

اے بزرگ تو بزرگ ہوا اپنے جلال کے ساتھ اور جلال تیری بزرگی کے جلال میں ہے اے جلیل۔

يَا وَاحِدُ تَوَحَّدْتَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْوَحْدَانِيَّةُ فِي

وَحْدَانِيَّةِ وَحْدَانِيَّتِكَ يَا وَاحِدُ ط

اے یگانہ! تو یگانہ ہے اپنی وحدانیت کے ساتھ اور وحدانیت تیری ہی وحدانیت کی یگانگت میں ہے اے یگانہ۔

يَا فَرْدُ تَفَرَّدْتَ بِالْفَرْدَانِيَّةِ وَالْفَرْدَانِيَّةُ فِي فَرْدَانِيَّةِ

فَرْدَانِيَّتِكَ يَا فَرْدُ ط

اے یکتا تو یکتا ہے اپنی یکتائی کے ساتھ اور سب یکتائی تیری ہی یکتائی کی یکتائی میں ہے اے یکتا۔

يَا جَمِيلُ تَجَمَّلْتَ بِالْجَمَالِ وَالْجَمَالُ فِي جَمَالِ جَمَالِكَ يَا

جَمِيلُ ط

اے صاحب جمال تو اپنے جمال کے ساتھ جمیل ہو اور سب جمال تیرے جمال کے جمال میں ہے اے جمیل۔

يَا عَظِيمُ تَعَظَّمْتَ بِالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةُ فِي عَظَمَةِ

عَظَمَتِكَ يَا عَظِيمُ ط

اے صاحب عظمت تو بزرگ ہو اپنی عظمت کے ساتھ اور سب بزرگی تیری بزرگی کی بڑائی میں ہے اے صاحب عظمت۔

يَا كَبِيرُ تَكَبَّرْتَ بِالْكَبْرِيَاءِ وَالْكَبْرِيَاءُ فِي كِبْرِيَاءِ

كِبْرِيَاءِكَ يَا كَبِيرُ ط

اے سب سے بڑے تو بڑا ہو اپنی صفت کبریائی سے اور سب کبریائی تیری صفت کبریائی میں ہے

اے کبیر۔

يَا كَرِيمُ تَكَرَّمْتَ بِالْكَرَمِ وَالْكَرَمُ فِي كَرَمِ كَرَمِكَ

يَا كَرِيمُ ط

اے کرم کرنے والے تو بزرگ ہو اپنی ذاتی بزرگی سے اور سب بزرگی تیری صفت کرم میں ہے
اے کریم۔

يَا قَدِيرٌ تَقَدَّرْتَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقُدْرَةُ فِي قُدْرَةِ قُدْرَتِكَ

يَا قَدِيرٌ ط

اے قدرت والے تو قادر ہے اپنی قدرت سے اور سب قدرت تیری قدرت کے قبضہ میں ہے
اے قدیر۔

يَا جَبَّارٌ تَجَبَّرْتَ بِالْجَبْرُوتِ وَالْجَبْرُوتُ فِي جَبْرُوتِ

جَبْرُوتِكَ يَا جَبَّارُ ط

اے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے تو نے خستہ کو جوڑ دیا اپنی صفت جبروت کے ساتھ اور سب
جبروت تیری صفت جبروت میں ہے اے جبار۔

يَا قَهَّارٌ تَقَهَّرْتَ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرُ فِي قَهْرِ قَهْرِكَ يَا قَهَّارُ

اے دباؤ والے تو قہار ہے اپنی صفت قہر کے ساتھ اور سب دباؤ تیرے قہر کے دباؤ میں ہے
اے قہار۔

يَا مَلِيكَ تَمَلَّكَتِ بِالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتُ فِي

مَلَكُوتِ مَلِكُوتِكَ يَا مَلِيكَ ط

اے بادشاہ تو اپنی ملکوت کے ساتھ بادشاہ ہے اور سب بادشاہتیں تیری بادشاہت کے ملکوت میں ہیں اے بادشاہ۔

يَا قُدُّوسُ تَقَدَّسْتَ بِالْقُدْسِ وَالْقُدْسُ فِي قُدْسِ

قُدْسِكَ يَا قُدُّوسُ ط

اے پاک ذات تو پاک ہو اپنی پاکیزگی کے ساتھ اور سب بزرگی تیرے قدس کی پاکیزگی میں ہے اے قدوس۔

يَا رَبُّ تَرَبَّبْتَ بِالرَّبُّوبِيَّةِ وَ الرَّبُّوبِيَّةُ فِي رَّبُّوبِيَّةِ

رَبُّوبِيَّتِكَ يَا رَبُّ ط

اے پروردگار تو اپنی صفت ربوبیت کے ساتھ رب ہے اور سب کی پرورش تیری صفت ربوبیت کی پرورش میں ہے اے رب۔

يَا رَحِيمُ تَرَحَّمْتَ بِالرَّحْمَةِ وَ الرَّحْمَةُ فِي رَحْمَةِ رَحْمَتِكَ

يَا رَحِيمُ ط

اے رحم فرمانے والے تو نے رحم کیا اپنے رحم کے ساتھ اور سب مہربانیاں تیری صفت رحم کی بدولت ہیں اے رحیم۔

يَا وَهَّابُ تَوْهَّبْتَ بِالْوَهْبَةِ وَ الْوَهْبَةُ فِي وَهْبَةِ

وَهْبَتِكَ يَا وَهَّابُ ط

اے بخشے والے تو نے بخشا اپنی بخشش کے ساتھ اور سب بخشش تیری بخشش کی عطا میں ہے اے وہاب۔

يَا مَنَّانُ تَمَنَّتَ بِالْمِنَّةِ وَالْمِنَّةُ فِي مِنَّةٍ مِنْتِكَ يَا

مَنَّانُ ط

اے احسان کرنے والے تو اپنی منانیت سے احسان کرنے والا ہے اور سب احسان تیری صفت منانیت کی داد میں ہیں اے احسان کرنے والے۔

يَا حَكِيمُ تَحَكَّمْتَ بِالْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةُ فِي

حِكْمَةِ حِكْمَتِكَ يَا حَكِيمُ ط

اے صاحب حکمت تو استوار ہے اپنی حکمت کے ساتھ اور سب حکمت تیری حکمت کی استوار کاری میں ہے اے حکیم۔

يَا هَجِيدُ تَمْجَدَّتْ بِالْمَجْدِ وَالْمَجْدُ فِي هَجْدِ هَجْدِكَ يَا

هَجِيدُ ط

اے بڑی شان والے تو بزرگ ہوا اپنے مجد سے اور سب شان تیری صفت مجد میں ہے اے مجید۔

يَا حَنَّانُ تَحَنَّنْتَ بِالْحِنَّةِ وَالْحِنَّةُ فِي حِنَّةٍ حِنَّتِكَ يَا

حَنَّانُ ط

اے بڑے احسان والے تو احسان کرتا ہے اپنے احسان کے ساتھ اور سب احسان تیری صفت حنانیت کی داد میں ہیں اے احسان کرنے والے۔

يَا حَمِيدُ تَحَمَّدْتُ بِالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ فِي حَمْدِ حَمْدِكَ يَا

حَمِيدُ ط

اے تعریف کئے گئے تو سراہا ہوا ہے اپنی خوبی کے ساتھ اور سب تعریف تیری حمد کی تعریف میں ہے اے حمید۔

يَا حَلِيمُ تَحَلَّمْتُ بِالْحِلْمِ وَالْحِلْمُ فِي حِلْمِ حَلِيمِكَ يَا

حَلِيمُ ط

اے بردبار تو حلیم ہے اپنی صفت حلم کے ساتھ اور سب بردباری تیرے حلم کی بردباری میں ہے اے حلیم۔

يَا قَدِيمُ تَقَدَّمْتُ بِالْقَدَمِ وَالْقَدَمُ فِي قَدَمِ قَدَمِكَ

يَا قَدِيمُ ط

اے سب سے پہلے تو قدیم ہے اپنے قدم سے اور سب قدامت تیرے قدم کی قدامت میں ہے اے سب سے پہلے۔

يَا شَهِيدُ تَشَهَّدْتُ بِالشَّهَادَةِ وَ الشَّهَادَةُ فِي شَهَادَةِ

شَهَادَتِكَ يَا شَهِيدُ ط

اے گواہ تو گواہ ہے اپنی صفت شہادت سے اور سب گواہی تیری شہادت کی شہادت میں ہے اے گواہ۔

يَا قَرِيبُ تَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبِ وَالْقُرْبُ فِي قُرْبِ قُرْبِكَ

يَا قَرِيبُ ط

اے قریب تو نزدیک ہے سب سے اپنی صفت قرب کے ساتھ اور سب نزدیکی تیرے قرب کی نزدیکی میں ہے اے قریب۔

يَا نَصِيرُ تَنْصَرْتُ بِالنُّصْرَةِ وَالنُّصْرَةُ فِي نَصْرَةٍ

نُصْرَتِكَ يَا نَصِيرُ ط

اے مددگار تو مددگار ہے اپنی صفت نصرت کے ساتھ اور سب مدد تیری نصرت کی نصرت میں ہے اے نصیر۔

يَا شَكُورُ تَشَكَّرْتُ بِالشُّكْرِ وَالشُّكْرُ فِي شُكْرٍ

شُكْرِكَ يَا شَكُورُ ط

اے قدردان تو قدردان ہو اپنی قدردانی کے ساتھ اور سب قدردانی تیری قدر میں اے قدردان۔

يَا سِتَّارُ تَسْتَرْتُ بِالسَّتْرِ وَالسَّتْرُ فِي سِتْرِ سِتْرِكَ يَا

سِتَّارُ ط

اے پردہ پوش تو ستار ہو اپنی صفت ستاریت سے اور پردہ پوشی تیری صفت ستاریت کی پردہ پوشی میں ہے

يَا خَالِقُ تَخَلَّقْتَ بِالْخَلْقِ وَالْخَلْقُ فِي خَلْقِ خَلْقِكَ يَا

خَالِقُ ط

اے پیدا کرنے والے تو نے پیدا کیا اپنی صفت خلق کے ساتھ اور سب خلق تیری خالقیت کی
پیدائش میں ہے اے خالق۔

يَا رَزَاقُ تَرَزَّقْتِ بِالرِّزْقِ وَالرِّزْقُ فِي رِزْقِ رِزْقِكَ يَا

رَزَاقُ ط

اے روزی رسال تو روزی پہنچاتا ہے اپنے رزق سے اور سب روزی تیرے رزق کے طفیل ہے
اے رزاق۔

يَا فَتَّاحُ تَفْتَحُ بِالْفَتْحِ وَالْفَتْحُ فِي فَتْحِ فَتْحِكَ يَا

فَتَّاحُ ط

اے فتاح تو نے کھولا اپنی فتح کے ساتھ اور سب کشائش تیری فتح کی کشائش میں ہے اے فتاح۔

يَا عَلِيمُ تَعَلَّمْتَ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ فِي عِلْمِ عِلْمِكَ يَا

عَلِيمُ ط

اے جاننے والے تو نے جانا اپنے علم کے ساتھ اور سب علم تیرے علم کی ذاشت میں ہے اے
علیم۔

يَا رَفِيعُ تَرَفَّعْتَ بِالرَّفْعِ وَالرَّفْعُ فِي رَفْعِ رَفْعِكَ

يَا رَفِيعُ ط

اے بلند تو نے بلند کیا اپنی رفعت کے ساتھ اور سب بلندی تیری رفعت کی بلندی میں ہے اے رفیع

يَا حَافِظُ حَفِظْتَ بِالْحِفْظِ وَالْحِفْظُ فِي حِفْظِ حِفْظِكَ يَا

حَافِظُ ط

اے نگہبان تو نے نگہبانی کی اپنی صفت حفاظت کے ساتھ اور سب نگہبانی تیری صفت حفظ کی نگہبانی میں ہے اے نگہبان۔

يَا سَلَامُ تَسَلَّمْتَ بِالسَّلَامِ وَالسَّلَامُ فِي سَلَامٍ

سَلَامِكَ يَا سَلَامُ ط

اے سلامت! تو اپنی سلامتی کے ساتھ سلامت ہو اور سب سلامتی تیری صفت سلامت کی سلامتی میں ہے اے سلامت۔

يَا وَاصِلُ تَوَصَّلْتَ بِالْوَصْلِ وَالْوَصْلُ فِي وَصْلٍ

وَصْلِكَ يَا وَاصِلُ ط

اے ملانے والے تو نے ملا یا سب کو ملاپ کے ساتھ اور سب ملاپ تیرے وصل کی طلب میں ہے اے ملانے والے۔

يَا فَاضِلُ تَفَضَّلْتَ بِالْفَضْلِ وَالْفَضْلُ فِي فَضْلٍ

فَضْلِكَ يَا فَاضِلُ ط

اے صاحب فضل تو نے فضل کیا اپنی صفت فضل کے ساتھ اور سب بزرگی تیرے فضل کی بزرگی میں ہے اے صاحب فضل۔

يَا فَاعِلُ تَفَعَّلْتَ بِالْفِعْلِ وَالْفِعْلُ فِي فِعْلٍ فِعْلِكَ يَا

فَاعِلُ ط

اے کر گزرنے والے تو کرنے والا ہو ساتھ اپنی صفت فعلیت کے اور ہر فعل میں تیرا فعل ہے
اے کر گزرنے والے

يَا فَاْرِضُ تَفَرَّضْتَ بِالْفَرَضِ وَالْفَرَضُ فِي فَرَضٍ

فَرَضِكَ يَا فَاْرِضُ ط

اے نافذ کرنے والے تو نافذ کرنے والا ہو اپنی صفت نفاذ کے ساتھ اور ہر نفاذ میں تیرا نفاذ ہے
اے نافذ کرنے والے۔

يَا سَمِيعُ تَسَمَّعْتَ بِالسَّمْعِ وَالسَّمْعُ فِي سَمْعٍ سَمْعِكَ يَا

سَمِيعُ ط

اے سُننے والے تو نے سنا اپنی صفت سماعت کے ساتھ اور سب سُننا تیری صفت سماعت کی
بدولت ہے اے سُننے والے

يَا سَامِعُ يَا مُجِيبُ يَا اَللهُ يَا عَزِيزُ لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ

اے سُننے والے اے قبول کرنے والے اے اللہ اے غلبے والے، نہیں کوئی

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ط يَا قُدُّوسُ اَسْأَلُكَ

معبود مگر وہ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے پاک ذات میں تجھ

اَنْ تُصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اَنْ تَغْفِرَ لِي وَّ تَرْحَمَنِي وَّ اَتُوبُ

سے سوال کرتا ہوں کہ تو حضرت محمد ﷺ پر درود بھیج اور تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور

اِلَى وَّ اَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَّ تَكْفِيْ مُهْبَاتِي وَّ تَسْتَجِيبُ

میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تو میری حاجت پورا فرما اور میری مشکلات کو آسان فرما اور

دَعَوْتِي وَتَقَبَّلْ عِبَادَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

میری دعا اور میری عبادت کو قبول فرما ساتھ اپنی رحمت کے اے سب سے بڑھ کر رحیم ذات۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ

اے اللہ تو میرا رب ہے تو ہی معبود حقیقی و برحق ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔

وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ط أَعُوذُ بِكَ

میں اپنے عہد جو میں نے روزِ میثاق کیا تھا اور وعدہ پر بقدر استطاعت قائم ہوں۔ میں تیرے ذریعہ

مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوؤُكَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ

سے اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا ہے۔ مجھ پر جو تیری نعمت ہے میں اس کا اعتراف کرتا

بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کیونکہ تو ہی گناہ بخشنے والا ہے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اے میرے پروردگار! تو میری مغفرت کر دے میری توبہ کو قبول کر بے شک تو بہت زیادہ توبہ

قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ اور قائم ہے اور میں

وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي ط اَعُوذُ

اے اللہ! تو میری مغفرت کر دے، تو مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ، تو مجھے رزق عطا کر، تو مجھے

بِاللَّهِ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

عافیت نصیب کر۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن کی حالت کی تنگی سے

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُرِيدُ بِحَقِّ إِمْرَأَةٍ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ

يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ط

اے اللہ تو صاحب ارادہ ہے ساتھ اپنی حقیقت کے اس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کُن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَلِيمُ بِحَقِّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ط

اے اللہ تو صاحب علم ہے ساتھ اپنی حقیقت کے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَدِيرُ بِحَقِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط

اے اللہ تو صاحب قدرت ہے ساتھ اپنی حقیقت کے اور اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَيُّ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ط

اے اللہ تو صاحب حیات ہے ساتھ اپنی حقیقت کے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ اور قائم ہے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ط

اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی رحمت کے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِعِزَّتِكَ اَسْتَعِيْثُ ط

اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی عزت کے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِعِظَمَتِكَ اَسْتَعِيْثُ ط

اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی عظمت کے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِنِعْمَتِكَ اَسْتَعِيْثُ ط

اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی نعمتوں کے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَرَامَتِكَ اَسْتَعِيْثُ ط

اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی کرامت کے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِقُدْرَتِكَ اَسْتَعِيْثُ ط

اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی قدرت کے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِفَضْلِكَ اَسْتَعِيْثُ ط

اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنے فضل کے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِنُصْرَتِكَ اَسْتَعِيْثُ ط

اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی نصرت کے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ

اے اللہ! تو سلامتی عطا کرنے والا ہے اور سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے تو برکت والا ہے

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط

اے صاحب جلال واکرام۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَالْوَالِدَاتِ وَأَرْحَمْنِي وَالْحَقِيئِي

بِالصُّلِحِينَ ط

اے اللہ! میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما۔

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ط يَا مَلِكِ يَوْمِ

الدِّينِ ط

اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔ اے بہترین خلق کرنے والے۔ اے شہنشاہ یوم محشر کے۔

الْخَلَاصُ يَا اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ يَا اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ يَا اللَّهُ

اے خلاصی دینے والے اے اللہ مدد دینے والے اے اللہ۔ اے اللہ مدد کو پہنچنے

أَدْرِ كُنِّي يَا اللَّهُ اغْثِنِي يَا اللَّهُ يَا غِيَاثُ الْمُسْتَعْثِينَ

والے۔ اے اللہ مجھے پہنچا دے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ اے سب بڑھ کر مددگار

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ

اور اللہ کا درود ہو اس کے حبیب ﷺ پر جو اس کی افضل خلق ہیں اور اس کے عرش کا نور ہیں اور اس

وَقَاسِمِ رِزْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

کے رزق کو تقسیم کرنے والے ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ پر اور آپ کی آل پر

وَ اَزْوَاجِهِ وَاَوْلِيَا اُمَّتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

اور آپ کے صحابہؓ پر اور آپ کی ازواج اور آپ کی امت کے تمام اولیاء پر بھی ساتھ اپنی رحمت کے

الرَّاحِمِينَ ط

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔

اٰمِيْنَ ثُمَّ اٰمِيْنَ ط

میری دعا کو قبول فرما پھر قبول فرما۔

طالب مولیٰ تعالیٰ

الشیخ حافظ محمد حبیب اللہ لختلی

+923214502183

چاہ میراں لاہور پاکستان